







ٹینگے اور گائیں



Tingi et les vaches

-  Ingrid Schechter
-  Ingrid Schechter
-  Samrina Sana
-  Urdu / French
-  Level 2



ٹینگى اپنے دادى كے ساتھ رهتا هے۔

...

Tingi vivait avec sa grand-mère.





وہ اُن کے ساتھ گا اے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔

...

Il gardait les vaches avec elle.



ایک دن فوجی آئے۔

...

Un jour, des soldats arrivèrent.



وہ گائیں اے گئے۔

...

Ils emmenèrent les vaches.



ٹینگھی اور اُس کی دادی دور بھاگے اور چھپ گئے۔

...


Tingi et sa grand-mère se sauvèrent et se cachèrent.



وہ دیر رات تک ایک جھاڑی کے پچھے چھپے رہے۔

...

Ils restèrent cachés dans des buissons
jusqu'au soir.



پھر فوجی واپس آگئے۔

...

Puis les soldats revinrent.



دادی نے ٹینگلی کو پتوں کے نیچے چھپا دیا۔

...

La grand-mère de Tingi recouvrit alors leurs corps de feuilles.



سپاہیوں میں سے ایک آدمی نے اس کے اوپر پاؤں رکھ
دیا۔ لیکن وہ چپ رہا۔

...

Un des soldats marcha sur Tingi, mais celui-ci
ne réagit pas.



جب یہ محفوظ تھا تو، ٹینگے اور اس کی دادی باہر آئے۔

...

Quand il n'y eut plus de danger, Tingi et sa grand-mère se relevèrent.

وہ ریپگتے ہو اے خاموشی سے گھر آئے۔

...

Ils revinrent chez eux sans faire le moindre bruit.





Storybooks Mauritius

global-asp.github.io/storybooks-mauritius

ٹینگلی اور گائیں

Tingi et les vaches

Written by: Ingrid Schechter

Illustrated by: Ingrid Schechter

Translated by: Samrina Sana (ur), Olivia Mahe, Translators without Borders (fr)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks Mauritius](https://global-asp.github.io/storybooks-mauritius) in an effort to provide children's stories in Mauritius's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

